

ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 234-236

يُتَوَفَّى-وُنَ	يَذَرُ-وُنَ	يَتَرَبَّصُّ+نَ	أَرْبَعَةَ	أَشْهُرٍ
و ف ي - جمع	و ذ ر - جمع	ر ب ص + ضمير	ر ب ع	ش ه ر
جو فوت کر لیے جاتے ہیں	وہ چھوڑ جاتے ہیں	وہ انتظار کریں	چار	مہینے
Pass away	leave behind	(the widows) should wait	Four	Months

عَشْرًا	بَلَغَ+نَ	أَجَلَ+هُنَّ	جُنَاحَ	عَرَّضَ+تُمْ
ع ش ر	ب ل غ + ضمير	أ ج ل + ضمير	ج ن ح	ع ر ض + ضمير
دس	وہ پہنچیں	عدت کو + اپنی	کوئی گناہ	اشارہ کیا + تم نے
Ten days	they reach	their (specified) term	Blame	You hint

خِطْبَةٍ	أَكْنَنَ+تُمْ	سَ+تَذْكُرُونَ+هُنَّ	تَوَاعِدُوا+هُنَّ	سِرًّا
خ ط ب	ک ن ن + ضمير	حرف + ذ ک ر + ضمير	و ع د + ضمير	س ر ر
منگنی کو	چھپایا + تم نے	عنقریب + تم یاد کرو گے + ان کو	تم باہم وعدہ کرو + ان سے	چھپ کر۔ پوشیدہ طور پر
marriage proposal	you conceal it	will mention them	promise them	secretly

تَ+عَزِمُوا	عُقْدَة	يَبْلُغُ	أَجَلَ+هُوَ	فَ+أَحْذَرُوا+هُ
ع ز م	ع ق د	ب ل غ	أ ج ل+ضمير	+حرف ذ ر ضمير
تم+عزم کرو	گرہ کا	پہنچ جائے	مدت کو + اپنی	پس + ڈرو+اس سے
resolve	The knot	reaches	It's end	So beware of Him

تَمَسُّوْا+هُنَّ	تَفَرِّضُوا	مَتَّعُوا+هُنَّ	الْمُوسِيعِ	قَدَرُ+هُوَ
م س س+ضمير	ف ر ض	م ت ع+ضمير	و س ع	ق د ر+ضمير
چھوا ان کو+تم نے	تم نے مقرر کیا	مال و متاع دو+ان کو	وسعت والے کے	وسعت کے مطابق
you have touched	you specified	make provision for them	the wealthy	according to his means

الْمُقْتَرِ	مَتَعًا
ق ت ر	م ت ع
تنگدست کے	فائدہ پہنچانا ہے
The Poor	A provision